

حوالہ۔ حوالہ سے مراد کسی بانڈ یا تمکے میں سرمایہ کاری کی رقم پر وہ حاصل ہے سالانہ فی صد کے طور پر ظاہر کیا گیا ہو۔ مثلاً کسی بانڈ کا حوالہ سادہ ترین شکل میں بانڈ کی آمدنی جو بانڈ کی مخلوکی مدت میں ملی ہو۔ یہ اوسط سرمایہ رقم کا تناسب ہے۔ جب کسر مایہ رقم بانڈ کی ادا کردہ قیمت خرید اور بانڈ کی تلافی مالیت پرستی ہے۔ یوں بانڈ کا حوالہ اور اس کی کوپن کی شرح یکساں نہیں ہوتیں کیونکہ مارکیٹ میں بانڈ کی تاجرت اس قیمت پر ہوتی ہے جو اس کی مساوی مالیت سے مختلف ہوتی ہے۔ اس طرح کسی قرض پر حوالہ، کسی قرضگار کے لئے سود کی وہ رقم ہے جسے قرضی رقم سے تقسیم کر کے سالانہ بنیاد پر بطور شرح ظاہر کیا گیا ہو۔ یوں ہی کسی امانت پر حوالہ، کمائی ہوئی سودی رقم کا کسی مدت میں اماقی رقم کا وہ تناسب ہے جسے سالانہ شرح کے طور پر ظاہر کیا گیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی قرض یا امانت کے تجارت بانڈ کی طرح نہیں کی جاتی اور نہ ہی ان کی کوئی دبی بازاری قیمت ہوتی ہے جیسا کہ بانڈ کی ہوتی ہے۔ کسی بانڈ یا تمکے پر حوالہ سرمایہ رقم پر، عرصیت پر، سرمایہ کاری کی مدت پر، سودی آمدنی کے ایک سال میں عرصہ وار ادائیگیوں پر مبنی ہے۔ اور ساتھ میں سود کی آمدنی پر اس کی نوسرمائیت کی آمدنی اور بانڈ کی مالیت تلافی بھی حوالہ میں شامل ہے، اور وہ مالیت تلافی جس میں سرمایہ کا نفع یا نقصان کا بوقت تلافی تسویہ کر دیا گیا ہو۔

حوالہ کی کئی اقسام ہیں جیسا کہ ذیل میں دیا گیا ہے۔ (اندرجذکر ہے)

● کوپن حوالہ۔ اسے نامیہ حوالہ بھی کہتے ہیں اور یہ متناجاتی شرح سود ہے اور بانڈ کی کوپن کی شرح بھی ہے جو بانڈ جاری کرتے وقت مقرر کی گئی ہو بشرطیک بانڈ کو اس کی مساوی مالیت پر خریدا گیا ہو۔ مثلاً اگر کوئی بانڈ اس کی مساوی مالیت پر ہی ایک ہزار روپیہ میں خریدا گیا ہو جس کی کوپن کی شرح 8 فی صد ہو جسے سال کے آخر میں ادا کرنا ہوتا ہے سال بھر کی سودی آمدنی 80 روپیہ ہوگی۔ چونکہ یہ بانڈ ایک ہزار روپیہ کی مساوی مالیت پر خریدا گیا تھا لہذا اس کا کوپن حوالہ یا نامیہ حوالہ بھی 8 فی صد ہو گا۔ یہ حوالہ سالانہ سودی آمدنی کو اس قیمت خرید سے تقسیم کر کے حساب لگایا گیا ہے جس کو بانڈ کے حامل نے ادا کیا تھا۔



• **وقتی حصالہ۔** یہ وہ شرح حاصل ہے جو کہ کسی بانڈ کی قیمت پر مبنی ہو جو بانڈ کی سودی آمدنی کو بانڈ کی قیمت سے تقسیم کر کے ملا ہو۔ مثلاً ایک ہزار روپیہ والا بانڈ اگر 800 روپیہ میں خریدا گیا ہو، یعنی کٹوتی کی قیمت پر ملا ہو، تو اگر بانڈ کی شرح سود 8 فنی صد ہے تو پھر اس بانڈ کا حصالہ 10 فنی صد ہو گا۔ اس کے برعکس اگر وہی بانڈ مساوی قیمت سے زیادہ قیمت پر پر بینیم دے کر 1200 روپے میں خریدا گیا ہو، تو حصالہ 6.7 فنی صد ہو گا جو کہ 80 روپیہ کی بانڈ پر آمدنی کو 1200 روپے سے تقسیم کر کے فنی صد طور پر ملا ہے۔ یوں کسی بانڈ کا حصالہ اس کے کوپن حصالہ سے زائد ہو گا اگر بانڈ کو مساوی مالیت سے کم پر خریدا گیا ہو۔ حصالہ کوپن حصالہ سے کم ہو گا اگر بانڈ کو مساوی قیمت سے زائد قیمت پر خریدا گیا ہو۔ اس کی وجہ وہ سرمایہ رقم ہے جو کہ بانڈ کی خریداری میں لگائی گئی ہو۔

• **جاری حصالہ۔** اسے بازاری حصالہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بانڈ کی وہ شرح حاصل ہے جسے موجودہ بازاری قیمت پر خریدا گیا ہوا وہ قیمت اس کی مساوی مالیت سے مختلف ہو۔ یوں جاری حصالہ کا حساب ویسے ہی لگایا جاتا ہے جیسے کہ اوپر حصالہ کی بابت لکھا گیا ہے۔ اگر بانڈ کی بازاری قیمت وہی ہو جو کہ اس کی مساوی مالیت ہے تو جاری حصالہ، بازاری حصالہ، واقعی حصالہ اور کوپن حصالہ، سبھی یہاں ہوں گے۔

• **کال تک حصالہ (YTC)** اگر بانڈ کا کال یاب ہے اور اس کا جاری گرائے واقعی میں کال کر لے، تب اس کے حصالہ کا حساب صرف اس مدت پر کیا جائے گا جب سے وہ بانڈ ملکوکر رہا ہے، یعنی خریداری کے وقت سے لے کر کاں کے وقت تک اور یہ حساب اسی طور پر ہو گا جیسے کہ عرصیت تک حصالہ کے لئے لگایا جاتا ہے جس میں بانڈ کی مساوی مالیت کو اس کی کال قیمت سے بدل دیا جاتا ہے۔

• **عرصیت کا حصالہ (YTM)** بانڈ پر یہ وہ شرح حاصل ہے جو اس کی پوری عرصیت پر ملے بشرطیکہ بانڈ کو اس کی عرصیت تک پاس رکھا گیا ہو۔ یوں یہ شرح بنی ہے مدت عرصیت پر، بانڈ کی قیمت پر جو خریداری کے وقت دی گئی ہو، بانڈ کی سودی آمدنی پر جو مدت عرصیت پر لی وہ بانڈ کی مالیت ملائی پر جو کہ عرصیت کی تاریخ پر ملے، اور سرمایہ پر کوئی بھی نقصان یا نفع پر جو کہ بانڈ کی قیمت میں اتار پڑھاؤ کی وجہ سے تلافتیت کے وقت ہوا ہے۔ اس کا حساب اوسٹلی طریقہ سے یعنی سادے طریقہ سے کیا جاتا ہے یا پھر اندر اجیت کے طریقے سے، جس میں کوپن آمدنی کے سیلان نقدی کو بھل کر نکالا جاتا ہے۔ اگر بانڈ کی مالیت پر خریدا گیا ہے اور اسے عرصیت کی تاریخ تک رکھا گیا ہوتا ہے تو YTM وہی ہے جو کہ بانڈ کی شرح سود، یعنی کہ اس کا کوپن حصالہ۔ لیکن YTM کوپن شرح سے مختلف ہو گا اگر بانڈ کو بھل پر یا پر بینیم پر خریدا گیا ہو۔ یہ خیال رہے کہ حصالہ کے حساب گری میں سودی آمدنی کے دو گلزارے ہیں۔ ایک گلزار تو سیدھا سادہ وہ سیلان نقدی ہے جو کہ کوپن سود کے طور پر عرصہ والا دانیگیاں سے ملا ہو جو کہ کوپن کی شرح پر مبنی ہے۔ دوسرا گلزار وہ سرمایہت کی آمدنی ہے جو کہ کوپن کی آمدنی کی نو سرمایہت سے ملا ہو، یعنی کہ کوپن کے سیلان نقدی کا مرکب سود جو سودی آمدنی کو دوبارہ لگانے پر ملا ہو۔



سادہ طریقہ۔ یہ  $YTM$  کا پیانہ اوسط آمدی اور اوسط سرمایت پر منی ہے اور اسے یوں نکلا جاتا ہے۔

(فارمولہ انگریزی میں دیکھیں۔)

$$\begin{aligned}
 \text{سے مراد عرصہ سمت تک حوالہ ہے،} & Y \\
 \text{عرصہ وارداں کی تعداد} & = n \\
 \text{نی عرصہ سیلان نقدي کی رقم} & = CF \\
 \text{بانڈ کی مالیت تلافی} & = Vr \\
 \text{بانڈ کی قیمت} & = P \\
 \text{بانڈ کی مساوی مالیت} & = Vp
 \end{aligned}$$

فرض کریں کہ ایک ہزار کے مساوی مالیت کا بانڈ 15 جنوری 1998ء کو 10 سال کی مدت عرصہ سمت پر جاری کیا گیا جس کی شرح سو 12 فی صد ہے۔ اور کوپن کی ادائیگیاں ہر چھ ماہ بعد 20 ہیں۔ اس بانڈ کی مالیت تلافی 15 جنوری 2008ء میں ایک ہزار روپیہ ہے۔ اب دوسال بعد یعنی 15 جنوری 2000 کے دن بانڈ کو بڑھ پر بیچا جا رہا ہے اور اس کی قیمت 7.8 / 8 - 948.75 روپیہ لگائی گئی ہے اس لئے بانڈ کی قیمت 948.75 روپیہ ہو گئی جو کہ خریدار ادا کرے گا۔ اور اس خریدار کو نی عرصہ کوپن کی آمدی سیلان نقدي 60 روپیہ ہو گا جو کہ 16 ادائیگیوں میں 8 سال تک ملے گا جو کہ بانڈ کی بتایا مدت عرصہ سمت ہے۔

$$\begin{aligned}
 \text{اس بناء پر 16 عرصوں کی اوسط آمدی } [16 / (16 \times 60 + 1000 - 948.75)] = 63 \text{ روپے 20 پیسے ہو گی۔} \\
 \text{جب کہ اوسط سرمایت } [2 / ((948.75 + 1000) / 974.37)] = 974.37 \text{ روپے ہو گی۔} \\
 \text{اور عرصہ سمت تک حوالہ } 2 = (63.20 / 974.37) \times 97y = 97y \text{ فی صد ہو گا۔}
 \end{aligned}$$

$YTM$  بندہ گاری طریقہ۔ یہ ذرا کچھ پچیدہ ہے لیکن زیادہ درست ہے کیونکہ اس میں بندہ گاری کا غصر ہے جب کہ شرح بندہ خود ہی حوالہ ہے۔ تصویرتی لحاظ سے یہ شرح بندہ ایسی ہے جو کہ بانڈ کی قیمت کو اس کی بندہ دار مالیت کے برابر کر دیتی ہے۔ اس بندہ دار مالیت کے دو جزو ہیں۔ اول تو بانڈ کے سیلان نقصہ دی کی بندہ دار مالیت، دوسرے بانڈ کی مالیت تلافی کی بندہ دار مالیت جیسا کہ یہ فارمولہ ظاہر کرتا ہے۔

(فارمولہ انگریزی میں دیکھیں)

اس مساوات کے دوسری طرف دو جزو ہیں۔ پہلا جزو عرصہ وار سیلان نقصہ دی کی بندہ دار مالیت ہے۔ اور دوسرا جزو بانڈ کی وہ مالیت تلافی ہے جس کی آخری ادائیگی کو بندہ کیا گیا ہو۔ چونکہ کوپن شرح مقرر ہے لہذا عرصہ وار سو 12 ادائیگی کے طور پر حاصل ہونے والی سیلان نقدي کی ہر رقم برابر ہے۔ اس مساوات میں شرح بندہ خود  $YTM$  ہے، اور اس کو متعین کیا جاسکتا ہے، کیونکہ مساوات میں صرف یہی ایک غیر معلوم مبدل ہے، بقیہ تمام پہلے سے تعریف ہیں۔ لیکن  $YTM$



کا حساب مالیتی calculator سے ہی ہو سکتا ہے اگر بقیہ مبدلات کی مناسب مالیت لگائی جائے۔ ان میں بانڈ کی قیمت، شرح کوپن، خریداری اور عرصیت کی تاریخیں اور عصوبوں کی تعداد شامل ہے۔ اوپر کی مثال میں بندگاری طریقہ سے فی مدت حصالہ 6.84 فی صد ہے اور چونکہ یہ یہم سالہ شرح ہے لہذا اسالا نہ حصالہ 13.68 فی صد ہو گا۔ یہ شرح حصالہ اس حصالہ سے تھوڑی زیادہ ہے جسے سادہ طریقہ پر نکالا گیا ہو۔ اس لئے بندگاری طریقہ سادہ طریقہ سے زیادہ ذرست ہے۔ لہذا اس طریقہ کو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

**بدرٹنک حصالہ (YTM)** اس حصالہ کو کال یاب بانڈ کی قیمت گاری کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ کال یاب بانڈ کا YTC اور YTM حصالہ کا تجھیں کر کے ان میں سے جو بدرٹنک حصالہ ہو اس سے بانڈ کی قیمت نکالی جاتی ہے۔ فرض کریں کہ کسی بانڈ کی YTC اس کے YTM سے کم تر ہے، اس صورت میں اس بانڈ کی YTM اس کے YTC کے برابر ہو گی کیونکہ مارکیٹ کی توقعات یہ ہوں گی کہ YTC کے برابر ہی اس بانڈ کا متوقع حصالہ ہو گا اور اس لئے مارکیٹ YTC کو بانڈ کی قیمت گاری کی بنیاد پر ارادے گی۔

حصالہ کا خط۔ خط (خط نمیدہ کا مخفف) سے مراد ایک جھلی ہوئی لائن ہے اگر ایک ہی درجے کے تسلکات کی حصالہ کی شرحوں کو عمودی لائن پر، اور بالترتیب عرصیتوں کوافقی لائن پر رکھ کر ان کے تقاطع ملائے جائیں تو وہ خط ہو گا۔ یہ خط مختصر مدتی اور طویل مدتی تسلکات پر حصالوں کی شرح کا ایک تقابی مواد فراہم کرتا ہے۔ اگر حصالہ کے خط کا جھکاؤ و اونٹی جانب اوپر کی سمت ہو تو اسے ثابت خط حصالہ کہتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ مختصر مدتی سود کی شرحیں طویل مدتی شرحوں سے کم ہیں۔ اس کے برعکس ایک منفی یا مکوس خط یہ ظاہر کرتا ہے کہ مختصر مدتی سود کی شرحیں طویل مدتی شرحوں سے زیادہ ہیں۔ اگر مختصر مدتی اور طویل مدتی شرحوں میں بہت کم فرق ہو یا کوئی فرق نہ ہو تو خط حصالہ ہموار ہو گا۔ ثابت جھکاؤ کے خط حصالہ کو نارمل خط حصالہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ عام طور پر یہ باور کیا جاتا ہے کہ خط کی یہ نارمل صورت ہے، جو کہ استدلائی توقعات پر بنی ہے۔ ان توقعات کی رو سے قیلیں مدتی سود کی شرحیں، طویل مدتی شرحوں سے اوپنجی ہوتی ہیں اور چونکہ حصالہ اور شرح سود کے مابین ایک مفتی ربط ہے لہذا خط حصالہ کا جھکاؤ بھی نارمل طور پر ثابت ہو گا۔ یعنی کہ جتنا شرح سود اوپنجی ہو گی، حصالہ بھی اتنا ہی اوپنجا ہو گا۔ اس کے برخلاف بانڈ کی قیمت میں اور اس کے حصالہ کے مابین منفی ربط پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ جتنا ہی بانڈ کی قیمت اوپنجی ہو گی یا بڑھے گی، حصالہ اتنا ہی نیچا یا کم ہو گا، اور یونہی اس کے برعکس ہے۔ (اندرانج دیکھئے)